

گرین کارٹ وینڈرز اب پانی، گری دار میوے اور کٹے ہوئے پھل اور سبزیاں بیچ سکتے ہیں

NYC محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت (محکمہ صحت) پھلوں اور سبزیوں کی پرمٹس رکھنے والے فوڈ وینڈرز اب اضافی صحت بخش خوراک بیچ سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کی کارٹ یا ٹرک سے بوتل بند پینے کا پانی، سادہ گری دار میوے، اور پہلے سے پیک شدہ کٹے ہوئے پھل اور سبزیاں بیچنے کا طریقہ یہاں درج ہے۔

پانی

- آپ سیل والے بوتل بند، ڈبہ بند یا پانی کے کارٹن بیچ سکتے ہیں۔
- پانی جامد یا کاربونیٹڈ ہو سکتا ہے اور اس میں ذائقہ یا معدنیات شامل ہو سکتے ہیں۔
- پانی میں سوڈیم یا قدرتی یا مصنوعی مٹھاس نہیں ہو سکتی اور اس میں صفر کیلوریز ہونی چاہیے۔
- چاہے پانی جامد ہو یا کاربونیٹڈ، اس کا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) یا نیو یارک اسٹیٹ (NYS) کے محکمہ صحت سے سند یافتہ مینوفیکچرر کا ہونا ضروری ہے۔
- آپ کسٹمرز کو ایسے پانی کی پیشکش نہیں کر سکتے ہیں جو آپ ایک گھڑے، بوتل، پینے کے پانی کے ٹینک یا کسی دوسرے کنٹینر سے کپ میں ڈالتے ہیں۔
- پانی کی بوتل، ڈبہ بند یا کارٹن کو برف پر رکھنے کیلئے، آپ کے پاس اپنی کارٹ پر ایک کولڈ ہولڈنگ کمپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو برف کو گندے پانی کے اندر موجود ٹینک میں بہنے دیتا ہے۔

گری دار میوے

- آپ خام، واحد اجزاء والے گری دار میوے پیش کر سکتے ہیں۔
- آپ ایسے گری دار میوے کی پیشکش نہیں کر سکتے جس میں چینی، نمک، کالی مرچ، تیل، مسالا، ذائقہ یا کوئی اور جزو شامل کیا گیا ہو۔ گری دار میوے کو پکایا، بہنا، ملا یا کینڈی نہیں بنایا جا سکتا۔
- گری دار میوے جو پہلے ہی شیل کر چکے ہیں ان کو پہلے سے پیک کیا جانا چاہئے، یا تو مینوفیکچرر کے ذریعہ یا فروش کے ذریعہ اجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ کمپری پر اور اسے کارٹ یا ٹرک پر پیک نہیں کیا جاسکتا۔
- جو گری دار میوے اب بھی اپنے خولوں میں ہیں انہیں وینڈنگ کارٹ یا ٹرک میں پیک کیا جا سکتا ہے، یا تجارتی طور پر پہلے سے پیک کیا جا سکتا ہے، یا اجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ کمپری میں پیک کیا جا سکتا ہے۔ گری دار میوے کو کارٹ یا ٹرک پر نہیں پھینکا جا سکتا۔

کٹے ہوئے، پہلے سے پیک شدہ پھل اور سبزیاں

- آپ کٹے ہوئے، پہلے سے پیک شدہ پھل اور سبزیاں پیش کر سکتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں خام، تازہ اور غیر منجمد ہونی چاہئیں۔
- پھلوں اور سبزیوں کو تجارتی طور پر یا تو مینوفیکچرر کے ذریعہ یا وینڈر کے ذریعہ اجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ کمپری میں کاٹا یا کاٹ کر پہلے سے پیک کیا جانا چاہئے۔ کھانے کی کارٹ یا ٹرک پر پھل اور سبزیوں کو کاٹا نہیں جا سکتا۔
- وینڈرز کے پاس پہلے سے پیک شدہ کٹے ہوئے پھلوں اور سبزیوں کو 41 ڈگری فارن ہائیٹ (5 ڈگری سیلسیس) پر یا اس سے نیچے رکھنے کا سامان ہونا چاہیے۔
- برف کو استعمال کرنے والے کولڈ ہولڈنگ کا سامان بلٹ میں گندے پانی کے ٹینک میں جانا چاہیے۔

- کھانے کے درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے وینڈنگ یونٹ پر ایک اسٹیم تھرمامیٹر ہونا چاہیے۔
- کولڈ ہولڈنگ آلات کے درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے آلات کا تھرمامیٹر ہونا چاہیے۔
- تھرمامیٹر کو کیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ کیلیبریشن گائیڈ کے لیے، nyc.gov/health ملاحظہ کریں اور **thermometer calibration guide (تھرمامیٹر کیلیبریشن گائیڈ)** تلاش کریں۔
- پیک شدہ کھانے کو ذخیرہ کرنا ضروری ہے تاکہ پگھلا ہوا برف کا پانی پیکینجنگ میں داخل نہ ہو۔ ایسے کنٹینرز یا پیکجز کا استعمال کریں جو پانی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔
- پیکج کا کوئی بھی حصہ جسے کھانے یا پینے کی سطح کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے برف یا پگھلے ہوئے برف کے پانی سے براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا۔

کمیسری میں خوراک کی پیکنگ

اگر آپ مینوفیکچرر کی طرف سے پیک کیا ہوا کھانا پیش کرنے کی بجائے اپنا کھانا خود پیک کرتے ہیں، تو آپ کو لازمی طور پر کسی ایسی کمیسری میں پیک کرنا چاہیے جس کے پاس محکمہ صحت کی پرمٹ ہو۔ آپ کو NYS ڈیپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ مارکیٹس کے لیبلنگ کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے اور پیکجز کا وزن اس پیمانے کے ساتھ کرنا چاہیے جو ان کے یا NYC ڈیپارٹمنٹ آف کنزیومر اینڈ ورکر پروٹیکشن کے ذریعے کیلیبریٹ اور معائنہ کیا گیا ہو۔

اس کے بارے میں معلومات کیلئے:

- لیبل کے تقاضوں کیلئے، agriculture.ny.gov ملاحظہ کریں اور **food labeling (فوڈ لیبلنگ)** تلاش کریں۔
- پیمانہ کے معانوں کیلئے، nyc.gov/dca ملاحظہ کریں اور **scale inspections (پیمانہ کے معانے)** تلاش کریں۔
- موجودہ اجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ کمیسریز کیلئے، بیورو برائے غذائی تحفظ کمیونٹی سینی ٹیشن کو **212-676-1650** یا **212-676-1651** پر کال کریں، یا infobfscs@health.nyc.gov پر ای میل کریں۔

نئے آلات کے لیے ایک نئے پری پرمٹ معائنہ کی ضرورت ہے۔

اگر آپ اپنی کارٹ یا ٹرک میں تبدیلیاں کرتے ہیں، بشمول نئے کولڈ ہولڈنگ کا سامان شامل کرنا، تو آپ کو محکمہ صحت سے ایک نیا پری پرمٹ معائنہ کرانا ہوگا۔ اپائنٹمنٹ لینے کیلئے **212-676-1650** پر کال کریں۔

کمیسری اسٹوریج کے تقاضوں میں کوئی تبدیلی نہیں

پہلے اور سبزیوں کے پرمٹ والے وینڈرز اپنی کارٹ یا ٹرک کو متبادل، منظور شدہ سہولت میں ذخیرہ کرنا جاری رکھ سکتے ہیں چاہے وہ یہ نئی خوراک پیش کریں۔ کسی اجازت یافتہ کمیسری میں کھانے کی ذخیرہ اندوزی لازمی طور پر جاری رکھنا چاہیے۔

پرمٹ اور معائنہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، nyc.gov/health ملاحظہ کریں اور **mobile food vendors (موبائل فوڈ وینڈرز)** تلاش کریں۔

اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو، infobfscs@health.nyc.gov پر ای میل کریں یا **212-676-1650** پر کال کریں۔